



6	וְהִיָּה	חָבֵל	הַיָּם	נִזְתָּ	כָּרַת	רָעִים	וְנִדְרֹת	צָאן:
	اور-ہو-گا	ساحل	سمندر-کا	چراگاہیں	کنویں	چرواہوں-کی	اور-باڑے	بھیڑوں-کے
	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3220</a>		<a href="#">H3741</a>		<a href="#">H1448</a>	<a href="#">H6629</a>

گے۔ لیں بنا باڑے لئے کے بھیڑکیوں اپنی میں اُس چرواہے اور گا، ہو استعمال لئے کے چرانے علاقہ ساحلی یہ تب

7	וְהָיָה	חָבֵל	לְשֹׂאנֵי	בֵּית	יְהוּדָה	עֲלֵיהֶם	יִרְעוּן	בְּבִנְיָ	אֲשֶׁקְלוֹן	בְּעָרֵב
	اور-ہو-گا	ساحل	بقیہ-کے-لیے	گھر	یہوداہ-کے	اُس-پر	چریں-گے	گھروں-میں	اشقلون-کے	شام-کو
	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H7611</a>		<a href="#">H3063</a>				<a href="#">H0831</a>	<a href="#">H6153</a>

	יְרַבְצוּן	כִּי	יִפְקְדֶם	יְהוּדָה	אֶלְהֵיהֶם	וְשָׁב	שְׁבוּתָם	(שְׁבִיתָם):
	لیٹیں-گے	کیونکہ	نگاہ-رکھے-گا-انہیں	یہوواہ	اُن-کا-خدا	اور-واپس-لائے-گا	اُن-کی-قید]	(اُن-کی-قید)
	<a href="#">H7257</a>			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7622</a>	<a href="#">H7622</a>

اُن رب کیونکہ گے۔ کریں آرام میں گھروں کے اشقلون وقت کے شام وہی گے، چریں وہاں وہی اور گا، آئے میں قبضے کے ہوؤں بجے کے گھرانے کے یہوداہ ملک گا۔ کرے بحال انہیں وہی گا، کرے بھال دیکھ کی اُن خدا کا

8	שְׁמֹעְתִי	חֲרַפְתָּ	מוֹאָב	וְנִדְוִפִי	בְּנֵי	עַמּוֹן	אֲשֶׁר	חָרְפוֹ	אֶת-	עֲזָי
	میں-تے-سنا	طعنہ	موآب-کا	اور-گالیاں	بیٹوں-کی	عمون	جنہوں-تے	طعنہ-کیا	کو	میری-قوم
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H2781</a>	<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H1421</a>		<a href="#">H5983</a>			<a href="#">H0853</a>	

	וַיִּנְדְּלוּ	עַל-	נְבוּלָם:
	اور-بڑائی-کی	اوپر	اُن-کی-سرحد
	<a href="#">H1431</a>		<a href="#">H1366</a>

ہیں۔ کی باتیں بڑی بڑی خلاف کے ملک کے اُس اور اُسوائی کی قوم میری نے انہوں نے۔ کیا غور پر ابانت کی عمونیوں اور طعن لعن کی موآبیوں نے میں

9	לִבְנֵי	חַי-	אֲנִי	נָאֵם	יְהוָה	צְבָאוֹת	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל	כִּי-	מוֹאָב	כְּסָדָם
	اس-لیے	زندہ	میں	فرماتا-ہے	یہوواہ	صباوت	خدائے	اسرائیل-کا	ضرور	موآب	سدوم-کی-طرح
			<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H4124</a>		<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H5467</a>

	הַהִיָּה	וּבְנֵי	עַמּוֹן	כְּעַמּוּדָה	מִמֶּשֶׁק	חָרוֹל	וּמְכַרְהָ-	מִלַּח	וּשְׁמֹמָה	עַד-
	ہو-جائے-گی	اور-بیٹے	عمون-کے	عمورہ-کی-طرح	گڑھا	جھاڑیوں-کا	اور-کان	نمک	اور-ویرانی	تک
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5983</a>	<a href="#">H6017</a>	<a href="#">H4476</a>	<a href="#">H2738</a>	<a href="#">H4379</a>	<a href="#">H4417</a>	<a href="#">H5704</a>		

	עוֹלָם	שְׂאֵרֵית	עַמִּי	יְבֹאֵם	וַיִּתֵּר	גִּוִּי]	(גִּוִּי)	وְרָئֵם-میں-پائے-گی-انہیں
	ابد	بقیہ	میری-قوم-کا	لوئے-گی-انہیں	اور-باقی	[میری-قوم]	(میری-قوم)	
	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H7611</a>		<a href="#">H0962</a>				<a href="#">H5157</a>

میں اُن گے۔ جائیں بن مانند کی عمورہ اور سدوم علاقے کے عمون اور موآب قسم، کی حیات میں ہے، فرماتا ہے خدا کا اسرائیل جو الافواج رب لئے اس پر زمین کی اُن کر لوٹ انہیں حصہ ہوا بجا کا قوم میری تب گے۔ رہیں سنسان و ویران تک ابد وہ اور گے، جائیں پائے ہی گڑھے کے نمک اور پودے رُو خود گا۔ لے کر قبضہ

10	זֵאת	לָהֶם	תַּחַת	נְאוֹנָם	כִּי	חָרְפוֹ	וַיִּנְדְּלוּ	עַל-	עַם	יְהוּדָה
	یہ	اُن-کے-لیے	بدلے	اُن-کے-تکبر-کے	کیونکہ	طعنہ-کیا	اور-بڑائی-کی	اوپر	قوم	یہوواہ
	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H1347</a>			<a href="#">H1431</a>		<a href="#">H3068</a>	

צְבָאוֹת:  
صباوت-کی

ہیں۔ کی باتیں بڑی بڑی خلاف کے قوم کے کر طعن لعن کو قوم کی الافواج رب نے انہوں کیونکہ گا۔ ہو اجر کا تکبر کے اُن یہی

11	נוֹרָא	יְהוָה	עֲלֵיהֶם	כִּי	רָזָה	אֵת	כָּל-	אֱלֹהֵי	הָאָרֶץ	וַיִּשְׁתַּחֲוֶי-	לֹא
	بیت-ناک	یہوواہ	اُن-پر	کیونکہ	ڈبلا-کر-دیا	کو	سارے	معبودوں	زمین-کے	اور-سجدہ-کریں-گے	اُس-کو
	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H7329</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7812</a>	

	אִישׁ	מִמֶּקוֹמוֹ	כָּל	אֶרֶץ	הַגּוֹיִם:
	ہر-ایک	اپنی-جگہ-سے	سارے	جزیرے	قوموں-کے
	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0339</a>	

ایک برگی، جائیں جھک سامنے کے اُس اقوام کی علاقوں ساحلی تمام گے۔ جائیں ہو کھڑے رونگٹے کے اُن تو گا کرے تباہ کو دیوتاؤں تمام کے ملک رب جب گا۔ کرے سجدہ اُسے پر مقام اپنے اپنے

12	נֶם- بھی	אַתֶּם تم	כּוֹשִׁים کوشیو	חָלְלִי قتل-ہونے-والے	חֲרָבִי میری-تلوار-سے	הַמָּזָה: وہ
	<a href="#">H1571</a>		<a href="#">H3569</a>		<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H1992</a>

گی۔ [ڈالے مار بھی تمہیں تلوار میری باشندو، کے ایتھوپیا ] اے، فرماتا رب

13	וַיִּט اور-بڑھائے-گا	יָדוּ اپنا-ہاتھ	עַל- اوپر	צָפוֹן شمال-کے	וַיֵּאבֹד اور-ہلاک-کرے-گا	אַתֶּ- کو	אַשּׁוּר اسور	וַיִּשֶׂם اور-بنائے-گا	אַתֶּ- کو	נִינְוָה نینوہ
	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H3027</a>		<a href="#">H6828</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0804</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5210</a>

לְשִׁמְנָה  
ویرانی-کے-لیے  
צִיָּה  
خشک  
כְּמִדְבָּר:  
صحرا-کی-طرح  
[H6723](#)

گا۔ جائے ہو خشک جیسا ریگستان کر ہو سنسان و ویران نینوہ گا۔ کرے تباہ کو اسور کر بڑھا بھی طرف کی شمال ہاتھ اپنا وہ

14	וְרִבְצִו اور-بیٹھیں-گے	בְּתוֹכָהּ اُس-کے-بیچ-میں	עֲדָרִים گلے	כָּל- ہر	חִיתוֹ- جانور	זָוִי قوم-کا	נֶם- بھی	קֶאֶת خوردبین	נֶם- بھی	קָפֹד خاریشت
	<a href="#">H7257</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H5739</a>	<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H6893</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H7090</a>

בְּכַפְתֹּרֶיהָ اُس-کے-ستونوں-پر	יָלִינוּ رات-گزاریں-گے	קוֹל آواز	יִשׁוּרָר گائے-گی	בְּחִלוֹן کھڑکی-میں	חֲרָב خرابی	בְּסֹף دبلیز-میں	כִּי کیونکہ	אַרְזָה دیودار
<a href="#">H3730</a>			<a href="#">H7891</a>	<a href="#">H2474</a>				<a href="#">H0731</a>

עֵרָה:  
ننگی-کی-گئی  
[H6168](#)

جنگلی اور گے، کریں بسیرا میں ستونوں پھوٹے ٹوٹے کے اُس خاریشت اور اُو دشتی گے۔ کریں آرام جانور کے قسم کئی دیگر اور ریوڑ میں بیچ کے شہر والے گزرنے پر لکڑی کی دیودار کی اُن جبکہ گی رہیں چھپی میں ڈھیروں کے ملے دبلیزیں کی گھروں گی۔ گونجیں سے میں کھڑکیوں جیخیں کی جانوروں گی۔ دے دکھائی کو

15	זָאת یہی	הָעִיר شہر	הַעֲלִיזָה خوش-ہونے-والا	הַיּוֹשֶׁבֶת بیٹھا-ہوا	לְבָשָׁח بے-فکری-سے	הָאֲמֶרֶה کہنے-والا	בְּלִבָּהּ اپنے-دل-میں	אֲנִי میں	וְאֲפֹסִי اور-نہیں-کوئی	עוֹד اور
	<a href="#">H2063</a>		<a href="#">H5947</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0983</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H0589</a>		<a href="#">H5750</a>

אֵיךְ کیسے	הִיטָה ہو-گیا	לְשִׁנָּה ویرانی-کے-لیے	מְרִבִּין بیٹھنے-کی-جگہ	לְחִיָּה جانوروں-کے-لیے	כָּל ہر	עוֹבֵר گزرنے-والا	עָלִיָּה اُس-پر	יִשְׂרָק سیٹی-مارے-گا
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8047</a>	<a href="#">H4769</a>	<a href="#">H3605</a>				<a href="#">H8319</a>

יָנוּעַ  
ہلانے-گا  
יָדוּ:  
اپنا-ہاتھ  
ס  
[فاصلہ]  
[H3027](#)  
[H5128](#)

نہیں۔ [بی بے اور کوئی سوا میرے ہوں، بی [میں تھا، کہتا میں دل جو اور تھا بستنا سے حفاظت اتنی پہلے جو گا ہو انجام کا شہر باش خوش اُس یہی گا۔ گزرنے سے وہاں کر کہہ توبہ۔ [توبہ مسافر ہر گے۔ کریں آرام ہی جانور جہاں جگہ ایسی گا، ہو ریگستان وہ آئندہ